

جولائی 2022ء میں کاشتکاروں کے لئے زرعی موسمیاتی مشورے

ماہ جون کے دوران بیشتر میدانی علاقوں میں اچھی بارشیں ہوئیں۔ جس کے نتیجے میں کھڑی فصلوں پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ جولائی بھی جون کی طرح سال کا گرم ترین مہینہ ہوتا ہے۔ اس دوران بارشیں زیادہ ہوتی ہیں جو کہ زمینی کٹاؤ کا باعث بنتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کسانوں کیلئے دشوار ترین مہینہ ہوتا ہے۔ ملک کے زیادہ تر حصوں میں اس مہینے وقفے وقفے سے مون سون کی بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ پوٹھوہار، بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخواہ اور سندھ میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارشیں ہونے کی توقع ہے جس سے پانی کے ذخائر میں بہتری آئیگی۔ اس صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے کاشتکار بھائیوں کیلئے مندرجہ ذیل تجاویز پیش خدمت ہیں۔

- ۱۔ فصلوں کی ہوائی سے پہلے زمین کو زیادہ سے زیادہ ہموار کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ڈھلوان سطحوں سے پانی زیادہ تیزی سے بہتا ہے۔
- ۲۔ موسم برسات میں زمینوں میں ممکنہ حد تک ہل نہ چلائیں اور کاشت شدہ کھیتوں میں گوڈی کرنے سے اجتناب کریں کیونکہ ہل چلی زمین کی مٹی پانی سے با آسانی بہ جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے اوپری زرخیز مٹی بہ جاتی ہے جس سے پودے اپنی خوراک حاصل کر تے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ فصلوں سے جڑی بوٹیوں کو تلف نہ کیا جائے بلکہ زمین کی سطح کی کم سے کم چھدائی کی جائے۔
- ۳۔ اپنے کھیتوں کی وٹ بندی پر اگی ہوئی گھاس کو اس موسم میں ہر گز نہ کاٹیں کیونکہ یہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ مٹی کے بہاؤ کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔
- ۴۔ مون سون کے مہینوں میں بارانی علاقوں کے کسان اپنی زمین کے بندوں کو مضبوط بنائیں تا کہ زیادہ سے زیادہ پانی کھیتوں میں جذب ہو کر آئندہ فصل کے لئے استعمال میں لایا جاسکے اور اگر ممکن ہو سکے تو پانی کیلئے تالاب بنائے جائیں تا کہ اس پانی کو مویشیوں کیلئے استعمال کیا جاسکے۔
- ۵۔ کپاس کی کاشت والے علاقوں میں زمینوں سے بارش کا اضافی پانی نکال دیں کیونکہ یہ فصل کیلئے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
- ۶۔ اپنی تمام تر کھیتی باڑی موسمی پیشگوئیوں کے مطابق کریں۔ موسمی پیشگوئیوں کے لئے اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن سے مربوط رہیں اور اگر کوئی زرعی موسمیاتی معلومات درکار ہو تو ہمارے مندرجہ ذیل دفاتر سے آپ بخوبی مدد حاصل کرسکتے ہیں۔

- ۱۔ نیشنل ایگرومیٹ سنٹر پی۔ او۔ بکس نمبر 1214، سیکٹر ایچ ایٹ ٹو، اسلام آباد۔ فون نمبر: 051-9250299
 - ۲۔ نیشنل فور کا سٹنگ سنٹر برائے زراعت، پی۔ او۔ بکس، 1214، سیکٹر ایچ ایٹ ٹو، اسلام آباد۔ فون نمبر: 051-9250363-4
 - ۳۔ ریجنل ایگرومیٹ سنٹر، نزد بارانی یونیورسٹی، مری روڈ، راولپنڈی۔ فون نمبر: 051-9292149
 - ۴۔ ریجنل ایگرومیٹ سنٹر، ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جھنگ روڈ، فیصل آباد۔ فون نمبر: 041-9201803
 - ۵۔ ریجنل ایگرومیٹ سنٹر، ایگر یکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ٹنڈو جام۔ فون نمبر: 022-9250558
 - ۶۔ ریجنل ایگرومیٹ سنٹر، ایگر یکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ، سریاب روڈ، کوئٹہ۔ فون نمبر: 081-9211211
- تفصیلی موسمی معلومات کیلئے محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ www.pmd.gov.pk ملاحظہ فرمائیں